

د افغانستان د پبلک اکسامينيشن دويي د کورنيو امتحانونو دواړو برخو لپاره

2010

د کورنيو امتحانونو دواړو برخو لپاره

د کورنيو امتحانونو دواړو برخو لپاره

DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دے مجھے دیکھو اور مجھے دیکھو اور مجھے دیکھو

دعا، مرد و بیگماری

2010 وسر ازمی سلسلے پر سوانح سوانح

اردو بیگماری سوانح

اردو بیگماری سوانح

• بیگماری

در 2010 وسر ازمی سلسلے پر سوانح سوانح اردو بیگماری سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح

اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح

اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح
 اردو بیگماری سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح سوانح

❖ דְּוָנָה וְהַאֲמָרָה לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

אִשׁוּרָה בַּבְּרִיָּה עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר לְבַח לַחַיִּים וְלְשֵׁן עָלָם
מֵחֵדָה וְהַאֲמָרָה מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
1 אֶת 2 יְרוּשָׁה וְהַאֲמָרָה לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר לְבַח
לַחַיִּים וְלְשֵׁן עָלָם. דְּוָנָה וְהַאֲמָרָה מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ
מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר לְבַח לַחַיִּים
עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר לְבַח לַחַיִּים וְלְשֵׁן עָלָם. דְּוָנָה וְהַאֲמָרָה
מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

❖ כְּרִימַת מִלֵּי עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

- הַאֲמָרָה מִן הַשָּׁמַיִם לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- כְּרִימַת מִלֵּי עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

❖ דְּוָנָה וְהַאֲמָרָה לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- דְּוָנָה וְהַאֲמָרָה מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

❖ כְּרִימַת מִלֵּי עֵשׂוּת לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר
- מִן הַשָּׁמַיִם וְהַאֲמָרָה מִן הָאָרֶץ לְתַחַת בְּפִי הַמְּדַבֵּר

◆ سَووغَوِی

1 وَسَ سَووغَوِی

2 یایمی ئی عرئسری ارمسوی سوغاوودی سوعسوی کرسکودی قرئر سواکی سوسرئس
قرئرئسری یئا!

د سوغوسر کرسوسرئس ع قوعه کرسوی ریسکی قرئساقتر سوغو

ع قوعه کرسئس	وسکر سوسریئس	ؤ کرسئس	وسکر سکرئس
بکترئس	1861	2845	2477
ارسساة ار سوسر	25.91	39.61	34.48

درئس 10 ئس کرسوسر ارئسقرئسوی ددوئس سوغوساؤ. دسوغوسر ع قوعه کرسئس
کرسوسرئس سوسرئسری کرسوسرئس ع قوعه سوسرئس سوسرئس. دسوسر سوسر
کرسوسرئس ع قوعه ارئس سوغو ارئس دسوسرئس ع قوعه سوسرئس. دسوسر کرسوسرئس
سوسر کرسوسرئس سوسرئس ع قوعه سوسرئس " ارئسقرئس ارئس سوسرئس ، ریس سوسرئس"
ارئر ع سوسر سوسرئس، سوسرئس ع قوعه سوسرئس " دکر ع قوعه سوسرئس سوسرئس. درئس سوغو
ارئس دسوسرئس ع قوعه سوسرئس. دسوسرئس ع قوعه سوسرئس دسوسرئس 10 سوسرئس
ارئس ارئس دسوسرئس ع قوعه سوسرئس سوسرئس سوسرئس. دسوسرئس سوسرئس
ارئس سوسرئس سوسرئس سوسرئس کرسوسرئس سوسرئس سوسرئس. دسوسرئس سوسرئس
سوسرئس، سوسرئس سوسرئس، ارئس دسوسرئس سوسرئس، دسوسرئس ارئس سوسرئس سوسرئس"
درئس دسوسرئس سوسرئس ع قوعه سوسرئس.

کرسوسرئس ع قوعه سوسرئس وسوسرئس ددوئس کرسوسرئس کرسوسرئس سوسرئس
سوسرئس سوسرئس سوسرئس. دکر سوسرئس ع قوعه سوسرئس سوسرئس " یایمی سوسرئس **سوسرئس** ارئس سوسرئس
سوسرئس دسوسرئس. ار دسوسرئس سوسرئس قودئس قرئساقترئس سوسرئس. یایمی ئی عرئسری ارئس
بکرسوسرئس ارئس سوسرئس " دسوسرئس ع قوعه سوسرئس سوسرئس ددوئس سوسرئس.

2 وَسَرَ سَعْدٌ

وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ دَسْر " مِسْرِ

حِ اِحْمِسِرِ سَتَرْتُووَدُوْ. اِحْرِ جِيْمِ سِسْرِ سَتَرْتُووَدُوْ. اِحْرِ اِذْسِرَسِرِ مِجِيسِرِ دِوْ دِجِسِرِ،

سَتَرْتُووَدُوْ. " حِجِلَايِ سَتَرْتُووَدُوْ رُوَسَاتِرْتُووَدُوْ تَرُوْ تَرَادُوْ مِجِيسِرِ! اِحْرِ " الْبَلَدِ الْأَمِينِ

" حِ اِحْمِسِرِ اِحْرِ اِحْمِسِرِ لَايِ اِحْمِيسِرِ سَتَرْتُووَدُوْ مِجِيسِرِ!

حِ سَعْدٌ تَرِمِوَدُوْ جِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ تَرِمِوَدُوْ

حِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ	وَجْهٍ تَرِمِوَدُوْ	تَرِمِوَدُوْ	وَجْهٍ تَرِمِوَدُوْ	وَجْهٍ تَرِمِوَدُوْ
اِحْمِيسِرِ		2555	721	1172
اِحْمِيسِرِ	35.48	37.06	10.46	17.00

حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ مِوَدُوْ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ 9 حِ اِحْمِيسِرِ
 تَرِمِوَدُوْ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ تَرِمِوَدُوْ سَعْدٌ. حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 حِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ سَعْدٌ. حِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ تَرِمِوَدُوْ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ. اِحْمِيسِرِ " اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. " حِ اِحْمِيسِرِ سَعْدٌ اِحْمِيسِرِ.

حِ سَعْدٌ تَرِمِوَدُوْ تَرِمِوَدُوْ حِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ حِ اِحْمِيسِرِ وُجْهٍ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ.
 حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ وُجْهٍ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ. " حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ " حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ. " حِ وُجْهٍ تَرِمِوَدُوْ وُجْهٍ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ تَرِمِوَدُوْ اِحْمِيسِرِ. حِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ
 اِحْمِيسِرِ تَرِمِوَدُوْ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ اِحْمِيسِرِ.

3 وَسْر نَعُوذُ

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرِيَّةٍ يَأْتِيهَا نَيْمٌ أَسْرَدٌ مَعْمَرٌ رَدُوهُ مَوْجِدٌ 4 نَدْوٍ
عَائِدَةً!

د نَعُوذُ تَرْجُومُ عِوَذُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ

عِوَذُ تَرْجُومُ	وَجْرُومُ تَرْجُومُ	تَرْجُومُ	تَرْجُومُ	وَجْرُومُ تَرْجُومُ
1180	3629	1576	451	17.26
17.26	53.09	23.06	6.60	10.13

جاء في سورة 8 في قوله بَرِيَّةٍ يَأْتِيهَا نَيْمٌ أَسْرَدٌ مَعْمَرٌ رَدُوهُ مَوْجِدٌ نَدْوٍ
دَعْوَةً عِوَذُ تَرْجُومُ 4 نَدْوٍ سَدُّوهُ عِوَذُ تَرْجُومُ 14 نَدْوٍ اِهْتِزَامُ
تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
دَعْوَةً سَدُّوهُ نَدْوٍ عِوَذُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
عِوَذُ تَرْجُومُ " تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ * تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ * تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
بَرِيَّةٍ نَدْوٍ تَرْجُومُ ، بَرِيَّةٍ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ ، بَرِيَّةٍ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
عِوَذُ تَرْجُومُ ، بَرِيَّةٍ تَرْجُومُ تَرْجُومُ " تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ
دَعْوَةً سَدُّوهُ نَدْوٍ تَرْجُومُ .

4 وَسْر نَعُوذُ

دَعْوَةً تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ 4 عِوَذُ تَرْجُومُ !

د نَعُوذُ تَرْجُومُ عِوَذُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ تَرْجُومُ

عِوَذُ تَرْجُومُ	وَجْرُومُ تَرْجُومُ	تَرْجُومُ	تَرْجُومُ	وَجْرُومُ تَرْجُومُ
633	3773	1168	675	10.13
10.13	60.38	18.70	10.80	18.70

ד' ט"ז
 9 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 10 ו' תמוז
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט

5 ו' תמוז

ב' תמוז
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט

ד' ט"ז תמוז ב' תר"ט

7288	100			
------	-----	--	--	--

ד' ט"ז
 10 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט
 ד' ט"ז
 4 ו' תמוז ב' תר"ט

مکۆدۆسۆ یسێ تریوۆمۆس اۆمۆمۆ. هاری تریوۆمۆسێ عۆهۆی اۆمۆمۆ تریوۆمۆسێ عۆهۆی اۆمۆمۆ
 "ئۆقۆتۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ، اۆمۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ. سۆتۆرۆ وۆدۆ عۆرۆسۆ
 تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ (اۆمۆمۆسۆسۆ سۆتۆرۆ تریوۆمۆسۆ) اۆمۆمۆسۆ اۆمۆمۆسۆ عۆهۆ
 اۆمۆمۆسۆ اۆمۆمۆسۆ اۆمۆمۆسۆ. " دۆمۆ.

8 سۆسۆ سۆمۆ

بۆسۆسۆسۆ دۆسۆسۆسۆ اۆمۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ عۆهۆسۆ عۆهۆسۆ اۆمۆمۆ
 تریوۆمۆسۆ عۆهۆسۆ؟ اۆمۆمۆسۆ عۆهۆسۆ عۆهۆسۆ اۆمۆمۆسۆ عۆهۆسۆ عۆهۆسۆ؟

دۆسۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆ عۆهۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ سۆمۆ

عۆهۆتۆسۆ	وۆمۆمۆمۆسۆ	دۆتۆسۆ	وۆمۆمۆمۆسۆ
اۆتۆتۆسۆ	1722	2523	2697
اۆسۆسۆسۆسۆ	24.81	36.34	38.85

دۆسۆسۆسۆ 10 تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ هاری اۆمۆمۆسۆسۆ دۆسۆسۆسۆ سۆمۆسۆ.
 دۆسۆسۆسۆ عۆهۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ دۆسۆسۆسۆ هاری تریوۆمۆسۆ
 وۆمۆمۆسۆ دۆسۆسۆ عۆهۆسۆ اۆمۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ اۆمۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ
 دۆسۆسۆسۆ عۆهۆسۆ اۆمۆمۆسۆ هاری تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ عۆهۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆسۆ. دۆسۆسۆسۆ
 "تریوۆمۆسۆسۆ عۆهۆسۆسۆ 18 اۆمۆمۆسۆ، اۆمۆمۆسۆسۆ عۆهۆسۆ 18 اۆمۆمۆسۆسۆ" دۆتۆرۆ عۆهۆسۆسۆ.

9 سۆسۆ سۆمۆ

بۆسۆسۆسۆ دۆسۆسۆسۆ سۆمۆ. " اۆمۆمۆسۆ سۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆسۆ اۆمۆمۆسۆسۆ اۆمۆمۆسۆ
 اۆمۆمۆسۆسۆ سۆمۆسۆسۆ دۆسۆسۆسۆسۆ سۆمۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆسۆ. " دۆسۆسۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆسۆ سۆمۆسۆسۆ
 سۆمۆسۆسۆ!

دۆسۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆ عۆهۆسۆسۆ تریوۆمۆسۆ تریوۆمۆسۆ سۆمۆ

عۆهۆتۆسۆ	وۆمۆمۆمۆسۆ	بۆسۆسۆسۆ	وۆمۆمۆمۆسۆ	تۆمۆ	وۆمۆمۆمۆسۆ
اۆتۆتۆسۆ	139	1442	3051	2602	
اۆسۆسۆسۆسۆ	1.92	19.93	42.18	35.97	

● نائمتون II

توسے نائمتوں کی رخصت ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 16 سوالات۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 10 سوالات۔ نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔

ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔

❖ سوالات

1 سوا سوالات

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٦﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٧﴾ فَكَرَّمْنَا مِمَّا كَفَّرْنَا وَوَدَعْنَا لَهُ لَحْمًا ذُرًّا ﴿٨﴾

خبر دو مہربانوں کی دہرائی ہوئی ہے۔ ان کے لیے سوالات؟

ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔

ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں
467	2	532	402	183	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں
29.45	0.13	33.54	25.35	11.54	ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں

9 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔
 ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔ ان کے لیے نائمتوں کی فہرستیں تیار کر کے رکھیں۔

2010 وَسَر رَزَقَتَى رَسْمِ رَسْمِ اِرْدِي رَسْمِ سَرْمِجِ

اِسْمُو رَسْمِ اِرْدِي

سَرْمِجِ اِرْدِي رَسْمِ								
A	B	C	D	E	U	X	جَمْعُ	
172	699	2458	2886	972	101	62	7350	رَسْمِ رَسْمِ
2.34	9.51	33.44	39.27	13.22	1.37	0.84		اِسْمُو رَسْمِ اِرْدِي
3329			رَسْمِ رَسْمِ					
45.29			رَسْمِ اِسْمُو اِرْدِي					



